



## ایکٹویٹی سکول کیلئے اوسلو سٹینڈرڈ

اوسلو سٹینڈرڈ ان توقعات کی وضاحت کرتا ہے جو طالب علموں کے سرپرست ایکٹویٹی سکول سے رکھ سکتے ہیں۔ یہ سٹینڈرڈ ان سرپرستوں سے کی جانے والی توقعات بھی واضح کرتا ہے جن کے بچوں کو یہ پیشکش ملتی ہے۔ سٹینڈرڈ میں چار معاملات شامل ہیں جن کا انتخاب ایکٹویٹی سکول کیلئے فریم ورک پلان اور اوسلو میں سکول میں پڑھائی کے اوقات کے علاوہ دیکھ بھال کی بلدیاتی سکیموں کے معیاری اصول و ضوابط کے پس منظر میں کیا گیا ہے۔ اوسلو سٹینڈرڈ یکم اگست 2011 سے تمام ایکٹویٹی سکولوں کیلئے مؤثر ہے۔

### مواد اور امنگیں

#### آپ ایکٹویٹی سکول سے کیا توقع کر سکتے ہیں؟

- سکول اور ایکٹویٹی سکول کے مواد اور سرگرمیوں کے بیچ اچھا تسلسل اور تعلق ہو
- ایکٹویٹی سکول فریم ورک پلان میں ہدف کے طور پر چنے گئے معاملات کے حوالے سے متنوع اور منظم سرگرمیاں مہیا کرے
- آپ کو یہ دیکھنے اور محسوس کرنے کا موقع ملے کہ آپ کے بچے نے ایکٹویٹی سکول میں کیا کیا ہے اور سیکھا ہے۔
- آپ کو ایکٹویٹی سکول کے پلان ملیں



#### ایکٹویٹی سکول آپ سے کیا توقع کر سکتا ہے؟

- آپ خبر رکھیں کہ ایکٹویٹی سکول میں آپ کے بچے کا دن کیسا ہوتا ہے

### تحفظ، اطمینان اور دیکھ بھال

#### آپ ایکٹویٹی سکول سے کیا توقع کر سکتے ہیں؟

- آپ کو ایکٹویٹی سکول کے مستقل معمولات سے آگاہ کیا جائے، حفاظت کے معمولات سے بھی۔
- آپ کو کافی وقت پہلے متعلقہ معلومات مل جائیں
- آپ کو محسوس ہو کہ آپ کا بچہ ایکٹویٹی سکول میں خوش ہے
- آپ کو محسوس ہو کہ ایکٹویٹی سکول کا عملہ مہربان اور مدد کرنے والا ہے
- اگر آپ کے بچے کے سلسلے میں کوئی خاص بات ہو تو آپ سے رابطہ کیا جائے

#### ایکٹویٹی سکول آپ سے کیا توقع کر سکتا ہے؟

- آپ ایکٹویٹی سکول کو اپنے بچے کے بارے میں متعلقہ معلومات دیں
- آپ ایکٹویٹی سکول کے عملے کے ساتھ احترام سے پیش آئیں
- آپ خیال رکھیں کہ آپ کا بچہ ایکٹویٹی سکول میں طے شدہ سرگرمیوں کیلئے درست سازوسامان ساتھ لے کر جائے



بلدیاتی محکمہ تعلیم اوسلو میں ایکٹویٹی سکول کیلئے ذمہ دار ہے۔ ایکٹویٹی سکول ایسی سرگرمیاں پیش کرے گا جن سے بچوں کو تعلیم اور سوشل پہلو سیکھنے میں مدد ملے۔ ایکٹویٹی سکول واضح اصول رکھے گا اور مثبت رویے کیلئے تحریک دے گا

ہر سکول ایسے پلان تشکیل دے گا جن سے اس ایکٹویٹی سکول میں دستیاب سرگرمیوں کا علم ہو۔ ایکٹویٹی سکول کیلئے فریم ورک پلان کی بنیاد پر سکول اپنے پلان بنائے گا۔

پرنسپل ایکٹویٹی سکول کا تعلیمی اور انتظامی سربراہ ہے اور اس امر کیلئے ذمہ دار ہے کہ سکول اور ایکٹویٹی سکول طالب علموں کی تعلیمی، سوشل اور ذاتی نشوونما کیلئے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں۔

اپنے سکول میں ایکٹویٹی سکول کی پیشکش کے بارے میں مزید تفصیل پڑھیں:

www.gs.oslo.no سکول کا نام



## نظم وقاعدہ اور آئندہ کیلئے علم

### آپ ایکٹویتی سکول سے کیا توقع کر سکتے ہیں؟

- ایکٹویتی سکول، سکول میں نظم و ضبط کے قواعد پر عمل کرے اور یہاں نظم و قاعدہ رہے اور پتہ چلتا ہو کہ کب کیا ہوگا
- آپ کو ایکٹویتی سکول کے بارے میں اہم اور متعلقہ معلومات سکول کے ویب سائٹ اور Fronter سے ملیں
- آپ کو ایکٹویتی سکول کھلنے کے اوقات اور چھٹیوں کے پلان کے بارے میں معلومات ملیں
- آپ کو ایکٹویتی سکول میں اہم سرگرمیوں کے بارے میں معلومات ملیں
- آپ کو معلومات ملیں کہ آپ کا بچہ کن سرگرمیوں میں حصہ لیتا ہے

### ایکٹویتی سکول آپ سے کیا توقع کر سکتا ہے؟

- آپ اپنے بچے کو ایکٹویتی سکول کے کھلے ہونے کے اوقات میں واپس لے جائیں
- آپ مقررہ وقت پر فیس ادا کریں
- آپ ایکٹویتی سکول کے اصول و ضوابط اور منصوبہ جات کا علم رکھیں
- آپ چھٹیوں، سرگرمیوں اور دوسرے معاملات میں ایکٹویتی سکول کے پیغامات کا جواب مقررہ وقت کے اندر اندر دیں۔



## باہم بات چیت اور تعاون

### آپ ایکٹویتی سکول سے کیا توقع کر سکتے ہیں؟

- آپ کو FAU اور سکول کی انتظامی کمیٹی کے ذریعے ایکٹویتی سکول کے مواد پر اثر انداز ہونے کا موقع حاصل ہو
- آپ کو میٹنگوں کیلئے دعوت دی جائے

### ایکٹویتی سکول آپ سے کیا توقع کر سکتا ہے؟

- آپ ایکٹویتی سکول کو ان چیزوں کے بارے میں اپنے خیالات بتائیں جن سے آپ مطمئن ہیں یا غیر مطمئن ہیں
- آپ صارفین کے سروے میں حصہ لیں
- آپ میٹنگوں اور سوشل پروگراموں میں شریک ہوں



# ایکٹویتی سکول کیلئے وسلو سٹیٹنٹ

